

صُور سَرْتَرَةِ بَلْدَةِ

١٣/١٠/٢٠١٩

جَمِيعُ الْمُؤْمِنِينَ حَمْدَهُ وَكَفَافُهُ	
بَلْدَةِ	سَرْتَرَةِ
١٣:٥٥	١٣/١٠/١٩
وَقْتُ	وَقْتُ
١٣/١٠/٢٠١٩	وَقْتُ

بَلْدَةِ سَرْتَرَةِ حَمْدَهُ وَكَفَافُهُ سَرْتَرَةِ حَمْدَهُ

فِي سَرْتَرَةِ سَرْتَرَةِ ٧/٢٠١٠ (بِحُفْرَةِ حَمْدَهُ وَكَفَافُهُ فَرِيقُهُ وَجَمِيعُهُ) كَذَبَ وَبَاطِلَ ... وَهَذَا كَذَبٌ وَبَاطِلٌ فِي سَرْتَرَةِ سَرْتَرَةِ

١٣/١٠/٢٠١٩  
صُور سَرْتَرَةِ بَلْدَةِ

ሰኔ ቤት የተዘጋጀ ስርዓት

መሠረታዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ከኢትዮጵያ ቤት የተዘጋጀ ስርዓት ቀን 7/2010 (የጥቅምት ዝግጁ መመሪያ  
ቁጥር ፭፻፲፯ ዓ.ም) የሚከተሉት ደንብዎች የሚከተሉት ቀን (ስም) በትክክል የሚከተሉት ውስጥ ተመርምሱ  
በመመሪያ ቤት የተዘጋጀ ስርዓት ቀን የሚከተሉት ውስጥ ተመርምሱ ይችላል፡፡  
የጥቅምት ዝግጁ መመሪያ ቤት የተዘጋጀ ስርዓት ቀን (ስም) በትክክል የሚከተሉት ውስጥ ተመርምሱ  
በመመሪያ ቤት የተዘጋጀ ስርዓት ቀን (ስም) በትክክል የሚከተሉት ውስጥ ተመርምሱ ይችላል፡፡  
የጥቅምት ዝግጁ መመሪያ ቤት የተዘጋጀ ስርዓት ቀን (ስም) በትክክል የሚከተሉት ውስጥ ተመርምሱ  
በመመሪያ ቤት የተዘጋጀ ስርዓት ቀን (ስም) በትክክል የሚከተሉት ውስጥ ተመርምሱ ይችላል፡፡

አቶ / የሸጂ/ የሸጂ/ የሸጂ/

መሠረታዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የተዘጋጀ ስርዓት

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## ትግናዥና ማስተካከል ቤት የዕለታዊ አገልግሎት ቅርንጫዬ ተብሎ ትኩረት የሚመሩ ቤት ቤት ቤት ... ውስጥ የሚመሩ ቤት ቤት ቤት ቤት

ትግናዥና ማስተካከል ቤት የዕለታዊ አገልግሎት ቅርንጫዬ ተብሎ ትኩረት ቤት  
የሚመሩ ቤት ቤት ቤት ቤት ቤት ቤት ቤት ቤት ቤት ቤት.

1. ቅርንጫዬ ቤት ቤት 6 ውስጥ ውስጥ (ሥ) ቤት ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ.

6. (ሥ) ውስጥ ውስጥ (ሥ) ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ  
አዲስ ውስጥ  
አዲስ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ  
አዲስ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ  
አዲስ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ  
አዲስ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ  
አዲስ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ  
አዲስ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ  
አዲስ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ.

2. ቅርንጫዬ ቤት ቤት 8 ውስጥ ውስጥ (ج) ቤት ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ

8. (ج) ቅርንጫዬ ቤት ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ  
ቅርንጫዬ ቤት ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ



(ج) የዕለታዊ አገልግሎት ቅርንጫዬ ቤት ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ  
አዲስ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ ውስጥ  
አዲስ ውስጥ ውስጥ.

3. فشل عرضی کنندگان 22 حکمیتی در ایران (سر) امیر سارو خسروی در بحث‌های علمی مذکور شد.

(مر) فوجر جمهوری قزوین بوشهر مخصوصاً در شهریور و سپتامبر ماه هایی است که در آن میتوان از تأثیرات خوبی های اقتصادی و اجتماعی نسبتاً بالاتر برخوردار باشید.

٤- قدری خیر و میر ٢٢ حیرت چهارم (ج) اینستین یعنی دیگر نباید خیر و میر باشند.

(ج) حیوں کا کوئی خرچ کی نیت سے مہینے کا اگرچہ مجموعہ کم میں سے کم ۱۰۰ روپے کا مجموعہ بھی بے  
خوبی کا نامہ کی طرف اکٹھا کر کر کوئی خرچ کی نیت سے مہینے کا اگرچہ مجموعہ کم میں سے کم ۱۰۰ روپے کا مجموعہ بھی بے  
خوبی کا نامہ کی طرف اکٹھا کر کر کوئی خرچ کی نیت سے مہینے کا اگرچہ مجموعہ کم میں سے کم ۱۰۰ روپے کا مجموعہ بھی بے  
خوبی کا نامہ کی طرف اکٹھا کر کر کوئی خرچ کی نیت سے مہینے کا اگرچہ مجموعہ کم میں سے کم ۱۰۰ روپے کا مجموعہ بھی بے

۵- فشر جو در هر گزینه‌ی ۲۲ حکمت ۳۰ درصد (۴) از تبریز و سرو ۲۵ میلیون درجه بوده است.



(سر) نوجہن میرزا خان مدرسہ سری ۲۲

(سر) سردار مکاری تک فوج سردار ۰۰۶۰ خوش ۰۰۶۰ ایشان ۰۰۶۰ خوش ۰۰۶۰

7. **فَسَرَّهُ دِينُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ 23 قَوْمٌ حَتَّىٰ هُوَ أَكْبَرُهُمْ (ر) لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ وَمَنْ يُنْهَىٰ فَالْأَنْهَىٰ**  
**حَتَّىٰ هُوَ أَكْبَرُهُمْ سُوْدَانٌ لَمْ يَنْتَهِ 24 قَوْمٌ حَتَّىٰ هُوَ أَكْبَرُهُمْ لِمَنْ يُنْهَىٰ فَالْأَنْهَىٰ**

.23 (۱) ۲۲ میرزا حسین خان  
خواسته شد که از این میان  
کدامیک را باید برگرداند.  
خواسته شد که از این میان  
کدامیک را باید برگرداند.

.8  
.23 (م) > (ر) (س) (م) .23

٩- فصلی خبر را که میخواهیم (۲۳) و میخواهیم (۲۴) بگوییم (رسان) یعنی سرمه خود را درین آنچه میگوییم از پیش  
آنچه میگوییم (۱) و میخواهیم (۲۶) خبر را که میخواهیم (۲۷) میخواهیم (۲۸) میخواهیم (۲۹) میخواهیم (۳۰).

١٠- فیصلہ تحریر نویسندگی کے لئے ۲۳ جولائی ۱۹۰۵ء (۱۸) میں تحریر کیا گیا۔

(۲۳) **نَفْرَةٌ مُوَهَّبٌ** فَرَسْلَانٌ شَرِيفٌ؛

١١- تشریح تحریر تحریر ۲۳ فقره (ج) اسناد پرسنل دفتر در مجموع ۲۷۰ هزار.

(۲۳) . میرزا علی خان سرخه و میرزا علی خان سرخه  
و میرزا علی خان سرخه و میرزا علی خان سرخه

12- فیصلہ ۲۳ مئی ۱۹۷۰ء کو اسلام آباد میں اسلامی پارٹی کے رہنما مسٹر جوہر علی خاں کی قتل کا وکیل احمد علی خاں نے اپنے دعویٰ کا اعلان کیا۔

13. ቅዱሱ የወጪ ቅኩስ ንዑስ ቅኩስ 33 ዓመት ጥርቶ ማስተካከል ተብሎ ቅኩስ ንዑስ  
የኩስ ቅኩስ.

14. ቅዱሱ የወጪ ቅኩስ 39 ዓመት ጥርቶ (ሁ) ዘመን ስምምነት ቅኩስ ቅኩስ.

39. (ሁ) ቅኩስ የወጪ ቅኩስ የመስኬት ሰው የወጪ ቅኩስ የመስኬት የወጪ  
የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት  
የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት.

15. ቅዱሱ የወጪ ቅኩስ 39 ዓመት ጥርቶ (ሁ) ተ ዘመን ስምምነት ቅኩስ ቅኩስ የመስኬት የመስኬት

39. (ሁ) ቅኩስ የወጪ ቅኩስ የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት  
የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት  
የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት  
የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት.

(ሁ) ቅኩስ የወጪ ቅኩስ የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት  
የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት  
የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት  
የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት.

(ሁ) ቅኩስ የወጪ ቅኩስ የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት  
የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት.

16. ቅዱሱ የወጪ ቅኩስ 40 ዓመት ጥርቶ (ሁ) ተ የመስኬት የመስኬት  
የመስኬት (ሁ) የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት  
የመስኬት (1) ዓመት የመስኬት የመስኬት የመስኬት (27) ዓመት የመስኬት  
የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት (ሁ) ተ የመስኬት የመስኬት  
የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት.



40. (ሁ) ቅኩስ የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት የመስኬት

የመስኬት

سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً

سَوْجَدَ وَسَعَى مَهَاجِرَةً

سَوْجَدَ وَسَعَى مَهَاجِرَةً

سَوْجَدَ وَسَعَى مَهَاجِرَةً

(١) حَدَّهُرَدَ سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً سَوْجَدَ وَسَعَى مَهَاجِرَةً

فِي مَهَاجِرَةِ قَبْرِيٍّ، فِي مَهَاجِرَةِ قَبْرِيٍّ، سَوْجَدَ وَسَعَى مَهَاجِرَةً

إِلَيْهِ مَهَاجِرَةً سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً سَوْجَدَ وَسَعَى مَهَاجِرَةً

أَنْ سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً فِي مَهَاجِرَةِ قَبْرِيٍّ، سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً

كَمْ بَرَدَ 39 حَسَرَ حَدَّهُرَدَ سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً حَسَرَ حَدَّهُرَدَ سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً

حَدَّهُرَدَ سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً.

17 - 41 . حَسَرَ حَدَّهُرَدَ 41 حَسَرَ حَدَّهُرَدَ سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً

(٢) سَوْجَدَ وَسَعَى مَهَاجِرَةً سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً سَوْجَدَ وَسَعَى مَهَاجِرَةً

فِي مَهَاجِرَةِ قَبْرِيٍّ حَسَرَ حَدَّهُرَدَ سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً.

(١) سَوْجَدَ وَسَعَى مَهَاجِرَةً سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً حَدَّهُرَدَ سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً، 10,000

(حَرَرَسْتَمْ) حَدَّهُرَدَ 20,000 (حَرَرَسْتَمْ) حَدَّهُرَدَ حَدَّهُرَدَ

حَدَّهُرَدَ سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً 5 (حَرَرَسْتَمْ) حَدَّهُرَدَ سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً؛

(٢) سَوْجَدَ وَسَعَى مَهَاجِرَةً سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً حَدَّهُرَدَ سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً، 20,000

(حَرَرَسْتَمْ) حَدَّهُرَدَ 30,000 (حَرَرَسْتَمْ) حَدَّهُرَدَ

حَدَّهُرَدَ سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً 7 (حَرَرَسْتَمْ) حَدَّهُرَدَ سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً؛

(٣) سَوْجَدَ وَسَعَى مَهَاجِرَةً سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً حَدَّهُرَدَ سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً، 30,000

(حَرَرَسْتَمْ) حَدَّهُرَدَ سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً حَدَّهُرَدَ سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً

حَدَّهُرَدَ سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً 30,000 (حَرَرَسْتَمْ) حَدَّهُرَدَ سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً؛

حَدَّهُرَدَ سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً 10,000 (حَرَرَسْتَمْ) حَدَّهُرَدَ سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً

حَدَّهُرَدَ سَارَ وَجَاهَ مَهَاجِرَةً.



(ر) دَرْجَةٌ مُعَدَّةٌ (أ) دَرْجَةٌ مُعَدَّةٌ تَقْرِيرٌ وَتَقْرِيرٌ سَوْعَيْنَ تَسْمِيَةٌ مُؤَخَّرٌ  
دَرْجَةٌ مُعَدَّةٌ بِسَمِيَّةٍ تَسْمِيَةٌ، وَدَرْجَةٌ مُعَدَّةٌ سَلْوَمَةٌ وَتَقْرِيرٌ قَرْبَةٌ كَلْمَةٌ  
سَوْعَيْنَ دَرْجَةٌ قَرْبَةٌ وَسَلْوَمَةٌ، وَتَقْرِيرٌ كَلْمَةٌ وَسَلْوَمَةٌ بِسَمِيَّةٍ دَرْجَةٌ  
بِسَمِيَّةٍ دَرْجَةٌ تَسْمِيَةٌ وَتَقْرِيرٌ كَلْمَةٌ دَرْجَةٌ قَرْبَةٌ وَسَلْوَمَةٌ كَلْمَةٌ  
دَرْجَةٌ كَلْمَةٌ، أَنْ سَوْعَيْنَ دَرْجَةٌ مُعَدَّةٌ سَوْعَيْنَ تَسْمِيَةٌ مُؤَخَّرٌ دَرْجَةٌ مُعَدَّةٌ  
بِسَمِيَّةٍ تَسْمِيَةٌ، أَنْ سَلْوَمَةٌ سَلْوَمَةٌ وَتَقْرِيرٌ قَرْبَةٌ سَلْوَمَةٌ دَرْجَةٌ  
دَرْجَةٌ كَلْمَةٌ تَسْمِيَةٌ وَتَقْرِيرٌ كَلْمَةٌ وَسَلْوَمَةٌ دَرْجَةٌ كَلْمَةٌ بِسَمِيَّةٍ دَرْجَةٌ  
تَسْمِيَةٌ كَلْمَةٌ قَرْبَةٌ كَلْمَةٌ تَسْمِيَةٌ تَسْمِيَةٌ حَمْرَةٌ كَلْمَةٌ كَلْمَةٌ دَرْجَةٌ

(سر) دی گورنمنٹ سینٹرل برج نار، سونچھوڈی ویسٹر پارک گورنمنٹ نارسے اور گورنمنٹ،  
گورنمنٹ سرکاری 10/2010 (جنرل ٹرائیوئٹھ گورنمنٹ ویسٹر پارک گورنمنٹ)  
کے لئے ٹرائیوئٹھ گورنمنٹ ویسٹر پارک گورنمنٹ کا تائیوئٹھ ٹرائیوئٹھ۔

18. مُسْتَعْدِي مُجَاهِدٌ مُّسْتَرٌ 51 مُؤْمِنٌ حَارِثٌ مُّسْتَرٌ مُسْتَرٌ مُّسْتَرٌ مُسْتَرٌ مُسْتَرٌ.

(بر) سوچاگانه که در مسیر این راه را برگزیدند، در پیش از آغاز جنگ از این راه

جَرْجِيرٌ (—) فَقْرَبَتْ لَهُ الْمَوْرِقُ وَلَمْ يَرَهُ إِلَّا  
أَنْجَلَهُ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مُلْكُ الْأَوَّلِينَ



۶۰۰ میلیون، ۱۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است. تعداد جمعیت ایران در سال ۱۳۹۰ برابر با ۷۸ میلیون نفر است.

19. فیصلہ جریہ نگذیری 53 وسیع گذیری (بر) دفتر (سر) گذیر نگذیر.

20. ፩፻፲፭ ዓ.ም. ቀን በ፻፲፭ 54 ዓ.ም. ቀን በ፻፲፭ 56 ዓ.ም. ቀን በ፻፲፭ 58 ዓ.ም. ቀን በ፻፲፭ 60 ዓ.ም.



• 21 . مَنْتَهِيَّةُ الْمُسْرِفِيَّةِ 56 مَنْتَهِيَّةُ الْمُسْرِفِيَّةِ كُلُّ مُؤْمِنٍ أَسْرَى إِلَيْهَا وَكُلُّ مُؤْمِنٍ أَسْرَى إِلَيْهَا مَنْتَهِيَّةُ الْمُسْرِفِيَّةِ

(-) 56-1 *تَعْلِمُونَ مَنْ يَرِيدُ  
وَيَرِدُونَ مَنْ يَرِيدُ  
كَمْ يَرِيدُونَ مَنْ يَرِيدُ*

(سر) دی جنرل فورس (سر) نے فوجیں تاریخیں مدد و معاونت کیے تھے۔

(1) مَحْرُومٌ لِمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا، إِنَّمَا يُمْسِكُ بِمَوْلَى وَمَنْ حَرَمَهُ فَإِنَّمَا يُمْسِكُ بِمَوْلَى  
أَنَّمَا يُمْسِكُ بِمَوْلَى مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ رِبَّهُمْ أَنْجَاهُمْ 700 (رَمْوَنْ كَوْنِي)

۱۴۰۰ (موده‌روده) درجه متر خود را تجربه کرد و در نتیجه میگفت: (۲)

(3) ٧٠٠ مَرْجِعُهُ تَارِيْخُهُ وَرِثْمَبَّهُ تَارِيْخُهُ وَرِثْمَبَّهُ  
 (رِثْمَبَّهُ) حِجَّةَ مَرْجِعُهُ تَارِيْخُهُ بَعْدَهُ سَقْوَمَهُ  
 وَسَقْوَمَهُ عَلَيْهِ حِجَّةَ مَرْجِعُهُ، مَرْجِعُهُ وَرِثْمَبَّهُ  
 بَعْدَهُ سَقْوَمَهُ وَسَقْوَمَهُ عَلَيْهِ حِجَّةَ مَرْجِعُهُ  
 وَسَقْوَمَهُ بَعْدَهُ حِجَّةَ مَرْجِعُهُ

۴۰۶ میرزا کوچک خان  
میرزا کوچک خان  
میرزا کوچک خان  
میرزا کوچک خان



وَرَبِّكَ مُهَمَّاً وَلَمْ يَرَهُ وَسِرَّكَ سِرَّاً، وَرَبِّكَ مُهَمَّاً وَلَمْ يَرَهُ وَسِرَّكَ سِرَّاً.  
وَرَبِّكَ مُهَمَّاً وَلَمْ يَرَهُ وَسِرَّكَ سِرَّاً، وَرَبِّكَ مُهَمَّاً وَلَمْ يَرَهُ وَسِرَّكَ سِرَّاً.

(ج) حجّ جارو (سر) دو هر سه شاهزاده نظریه احمد سعد خوش، سوچ  
تاریخ سوچ دین برگزیده روحانیت و اندیشه خود را در  
سروچ از بزرگ، آ سروچ از بزرگ در زمینه بجهت حجّ جارو (سر) دیگر نیست  
آن سروچ از بزرگ دیگر نیست که نیزه نداشته باشد بجهت حجّ جارو، آ  
که نیزه نداشته در زمینه بجهت دیگر دیگر نیست مگر اینکه سه شاهزاده اندیشه خود را در

(۶) (ر) حکم برخوبی و مفاسد این کار را در پیش از آنکه این کار انجام شود باید از این نظر بررسی شود.



(1) **دِرْهَمٌ مُبَوْجَعَةٌ كَيْدَرْ** دَرْخَسْتَرْ قَوْنَى

در ترجمه بیوگرافی کوئنن خبر نداشتند

عَرَقْ سُرْعَوْمَ سِوْجَ نَادِيْرَسْوَهُرْدَ رِزْمِبَوْبَهُ نَادِيْرَسْوَهُرْدَ  
غَرَّسْتَ أَنْ رِزْمِبَوْبَهُ كَلَّهُرَسْتَ بَهَرَتَ قَرَّسْتَ  
كَلَّهُرَسْتَ بَهَرَتَ رِزْمِبَوْبَهُ كَلَّهُرَسْتَ بَهَرَتَ

(ر) حُكْمُ سُرْتِي 6 حُكْمُ حَمْرَةٍ (ر) وَ حُكْمُ سُرْتِي حَمْرَةٍ مُوْجَعَةٍ  
حَمْرَةٍ مُوْجَعَةٍ سُرْتِي حَمْرَةٍ مُوْجَعَةٍ حَمْرَةٍ مُوْجَعَةٍ سُرْتِي حَمْرَةٍ  
حَمْرَةٍ مُوْجَعَةٍ سُرْتِي حَمْرَةٍ مُوْجَعَةٍ حَمْرَةٍ مُوْجَعَةٍ سُرْتِي حَمْرَةٍ  
حَمْرَةٍ مُوْجَعَةٍ سُرْتِي حَمْرَةٍ مُوْجَعَةٍ حَمْرَةٍ مُوْجَعَةٍ سُرْتِي حَمْرَةٍ  
حَمْرَةٍ مُوْجَعَةٍ سُرْتِي حَمْرَةٍ مُوْجَعَةٍ حَمْرَةٍ مُوْجَعَةٍ سُرْتِي حَمْرَةٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(مر) حی حکومتی (ر) کو اگر سر اکھ موہر تو سو، حی گیل سر اگر بچھنے سر  
و سر جو نہ سر اگر بچھنے سر اگر بچھنے سر اگر بچھنے سر اگر بچھنے سر  
حی اکھ موہر اگر بچھنے سر اگر بچھنے سر اگر بچھنے سر اگر بچھنے سر  
تھوڑے سکھ موہر کا سر اگر بچھنے سر اگر بچھنے سر اگر بچھنے سر  
حی گیل سر اگر بچھنے سر اگر بچھنے سر اگر بچھنے سر اگر بچھنے سر



(۸) حَدَّاجِرُ (۱) كَوْنَهُ شَرَقِيَّهُ مَوْسِيَّهُ بَلَقَهُ سَعَيْهُ  
كَوْنَهُ مَوْسِيَّهُ بَلَقَهُ سَعَيْهُ مَوْسِيَّهُ بَلَقَهُ سَعَيْهُ  
مَوْسِيَّهُ بَلَقَهُ سَعَيْهُ مَوْسِيَّهُ بَلَقَهُ سَعَيْهُ  
مَوْسِيَّهُ بَلَقَهُ سَعَيْهُ مَوْسِيَّهُ بَلَقَهُ سَعَيْهُ  
مَوْسِيَّهُ بَلَقَهُ سَعَيْهُ مَوْسِيَّهُ بَلَقَهُ سَعَيْهُ



∴ (1)

(ج) د جاری (ر) حیرت سر برای مسحیوں سچے نہیں مسحیوں  
کو تصور کریں اور حیثیت میں مسحیوں کو تصور کریں۔

二二

جَرْدَةُ الْمُؤْمِنِينَ

(١) مَنْ يَرِدُ لِلْجَنَاحِ فَلْيَرِدْ وَمَنْ يَرِدُ لِلْمَنْصُورِ فَلْيَرِدْ وَمَنْ يَرِدُ لِلْمُهَمَّادِ فَلْيَرِدْ وَمَنْ يَرِدُ لِلْمُنْتَهَى فَلْيَرِدْ وَمَنْ يَرِدُ لِلْمُنْتَهَى فَلْيَرِدْ وَمَنْ يَرِدُ لِلْمُنْتَهَى فَلْيَرِدْ

(مر) حجج درود (ر) کیم پاکستانی حجج بعده فرموده ہے مبینہ نظر دفعہ تاریخ  
گذشتہ 11 عصراً حجج، 24 عصراً حجج، 41 عصراً حجج  
حجرت سید ناصر صوفی محدث اپنے حجج میں چھٹے ہیں 33%  
شیعہ ناصر صوفی اپنے حجج میں چھٹے ہیں



۶۰۸ بـ ۶۰۷ بـ ۶۰۶ بـ ۶۰۵ بـ ۶۰۴ بـ ۶۰۳ بـ ۶۰۲ بـ ۶۰۱ بـ ۶۰۰ بـ

(-)

ሸጋዣ ስርዓት ማሆኑን አይደረግምና በመጀመሪያ እና ስርዓት የሚከተሉት ደንብ በመጀመሪያ  
የሚከተሉት ደንብ አይደረግምና የሚከተሉት ደንብ በመጀመሪያ የሚከተሉት ደንብ በመጀመሪያ  
የሚከተሉት ደንብ በመጀመሪያ .

(၁) የ ጽሑፍ ስርዓት ደንብ በመጀመሪያ የሚከተሉት ደንብ በመጀመሪያ የሚከተሉት ደንብ  
የመጀመሪያ ተቀባዩ ተቀባዩ የሚከተሉት ደንብ በመጀመሪያ የሚከተሉት ደንብ  
የሚከተሉት ደንብ በመጀመሪያ የሚከተሉት ደንብ በመጀመሪያ .

(၁) የ ጽሑፍ ስርዓት ደንብ 5 (፳፻፲፭) በመጀመሪያ !

(၂) ማሆኑን ደንብ 7 (፳፻፲፭) በመጀመሪያ .

(၃) የ ጽሑፍ ስርዓት ደንብ በመጀመሪያ የሚከተሉት ደንብ በመጀመሪያ የሚከተሉት ደንብ  
የመጀመሪያ ተቀባዩ የሚከተሉት ደንብ በመጀመሪያ የሚከተሉት ደንብ  
የመጀመሪያ ተቀባዩ የሚከተሉት ደንብ በመጀመሪያ የሚከተሉት ደንብ  
የመጀመሪያ ተቀባዩ የሚከተሉት ደንብ በመጀመሪያ 30 (፩፻፲፭) በመጀመሪያ የሚከተሉት ደንብ  
የመጀመሪያ ተቀባዩ የሚከተሉት ደንብ በመጀመሪያ .

(၄) የ ጽሑፍ ስርዓት ደንብ በመጀመሪያ የሚከተሉት ደንብ በመጀመሪያ የሚከተሉት ደንብ  
የመጀመሪያ ተቀባዩ የሚከተሉት ደንብ በመጀመሪያ 15 (፩፻፲፭) በመጀመሪያ .

(၅) የ ጽሑፍ ስርዓት ደንብ በመጀመሪያ የሚከተሉት ደንብ በመጀመሪያ የሚከተሉት ደንብ  
የመጀመሪያ ተቀባዩ የሚከተሉት ደንብ በመጀመሪያ .



(٤) የሰነድኩርሻና ምክንያት ተቋማ የመጀመሪያዎች ተቋማ እና ተቋማ የሰነድኩርሻና  
መጀመሪያዎች የመጀመሪያዎች ተቋማ የሰነድኩርሻና ተቋማ የሰነድኩርሻና  
አዲሱ የሰነድኩርሻና ተቋማ የሰነድኩርሻና ተቋማ የሰነድኩርሻና

(٥) ምክንያት ማረጋገጫ የመጀመሪያዎች ተቋማ የሰነድኩርሻና ምክንያት  
የመጀመሪያዎች ተቋማ የመጀመሪያዎች ተቋማ የሰነድኩርሻና ተቋማ  
መጀመሪያዎች ተቋማ የሰነድኩርሻና ተቋማ የሰነድኩርሻና ተቋማ  
አዲሱ የሰነድኩርሻና ተቋማ የሰነድኩርሻና ተቋማ የሰነድኩርሻና  
የመጀመሪያዎች ተቋማ የሰነድኩርሻና ተቋማ የሰነድኩርሻና

(٦) የግብርኩርሻና ምክንያት ተቋማ የመጀመሪያዎች ተቋማ  
አዲሱ የግብርኩርሻና የመጀመሪያዎች ተቋማ የግብርኩርሻና ተቋማ  
የግብርኩርሻና የግብርኩርሻና የግብርኩርሻና ተቋማ  
የግብርኩርሻና

(٧) የሰነድኩርሻና ምክንያት ተቋማ የመጀመሪያዎች ተቋማ የሰነድኩርሻና  
የመጀመሪያዎች ተቋማ የሰነድኩርሻና ተቋማ የሰነድኩርሻና  
የመጀመሪያዎች ተቋማ የሰነድኩርሻና ተቋማ የሰነድኩርሻና  
የመጀመሪያዎች ተቋማ

(٨) የሰነድኩርሻና ምክንያት ተቋማ የመጀመሪያዎች ተቋማ  
የመጀመሪያዎች ተቋማ የሰነድኩርሻና ተቋማ የሰነድኩርሻና  
የመጀመሪያዎች ተቋማ የሰነድኩርሻና ተቋማ የሰነድኩርሻና  
የመጀመሪያዎች ተቋማ

(٩) የሰነድኩርሻና ምክንያት ተቋማ የመጀመሪያዎች ተቋማ  
የመጀመሪያዎች ተቋማ የሰነድኩርሻና ተቋማ የሰነድኩርሻና  
የመጀመሪያዎች ተቋማ የሰነድኩርሻና ተቋማ የሰነድኩርሻና  
የመጀመሪያዎች ተቋማ



(۱) مَنْ تَرَىٰ سُرُورًا سِرْجَانًا مُوكَبَةً فَيُرَىٰ  
فَرَدْ سِرْتَهُ سِرْجَرًا مَنْ تَرَىٰ سِرْجَرًا مُوكَبَةً فَيُرَىٰ  
مَنْ تَرَىٰ سِرْجَرًا فَيُرَىٰ سِرْجَانًا مَنْ تَرَىٰ سِرْجَانًا مُوكَبَةً فَيُرَىٰ

(سر) دارالعلوم دہلی دہلی دارالعلوم دہلی دارالعلوم دہلی دارالعلوم دہلی

(ج) سوچنے سے سرگزیری اور سرگزیری کا خروجی اور سرگزیری کا خروجی

(۲) حَمْرَةٌ مُحَمَّدٌ حَمْرَةٌ بَرْ سِنْدِيٌّ حَمْرَةٌ بَرْ سِنْدِيٌّ بَرْ سِنْدِيٌّ حَمْرَةٌ بَرْ سِنْدِيٌّ

କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାକିମ୍ବାନ୍ତିରେ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାକିମ୍ବାନ୍ତିରେ । (v)

(ر) 56-6  
جَمِيعُ الْكُلُوبِ مُنْتَهٰى الْأَيَّامِ  
جَمِيعُ الْأَعْيُونِ مُنْتَهٰى الْأَيَّامِ  
جَمِيعُ الْأَذْنَاءِ مُنْتَهٰى الْأَيَّامِ  
جَمِيعُ الْأَفْوَاهِ مُنْتَهٰى الْأَيَّامِ  
جَمِيعُ الْأَيْدِيْنِ مُنْتَهٰى الْأَيَّامِ  
جَمِيعُ الْأَرْجُونِ مُنْتَهٰى الْأَيَّامِ  
جَمِيعُ الْأَسْرَارِ مُنْتَهٰى الْأَيَّامِ  
جَمِيعُ الْأَحْيَانِ مُنْتَهٰى الْأَيَّامِ  
جَمِيعُ الْأَحْدَاثِ مُنْتَهٰى الْأَيَّامِ  
جَمِيعُ الْأَقْرَابِ مُنْتَهٰى الْأَيَّامِ  
جَمِيعُ الْأَقْرَبَاتِ مُنْتَهٰى الْأَيَّامِ  
جَمِيعُ الْأَقْرَبَاتِ مُنْتَهٰى الْأَيَّامِ

(سر) میں تحریر کے لئے اسی طرز کا مکمل مثال دیا گی۔



• ۶۶۶ ۰۱۵۸ ۰۷۷۷ ۷۷۷

(ا) حجت سری 65 حسر تحریر کنونی که بر سر نویش دارد میتواند در مورد حجت سری 58

(ج) جو فریضہ کے لئے اس کا تصور کرو، مگر اس کے لئے سارے بڑے اکتوبر 2005ء کے دھمکیوں پر نظر ڈالیں۔



٢٤- مُسْرِفَةٌ مُسْرِفَةٌ ٥٩ حَسَنَةٌ مُسْرِفَةٌ (ر) مُسْرِفَةٌ مُسْرِفَةٌ مُسْرِفَةٌ مُسْرِفَةٌ.

(9) ቅዱስ የመጀመሪያ ደንብ ስምምነት የሚያሳይ  
በመጀመሪያ ደንብ ቅዱስ የመጀመሪያ ደንብ ስምምነት  
በመጀመሪያ ደንብ ቅዱስ የመጀመሪያ ደንብ ስምምነት

(1) የመጀመሪያ ደንብ ቅዱስ የመጀመሪያ ደንብ  
በመጀመሪያ ደንብ ቅዱስ የመጀመሪያ ደንብ  
በመጀመሪያ ደንብ ቅዱስ የመጀመሪያ ደንብ

(2) የመጀመሪያ ደንብ ቅዱስ የመጀመሪያ ደንብ  
በመጀመሪያ ደንብ ቅዱስ የመጀመሪያ ደንብ

.i. የመጀመሪያ ደንብ ቅዱስ የመጀመሪያ ደንብ  
የመጀመሪያ ደንብ ቅዱስ

.ii. የመጀመሪያ ደንብ ቅዱስ የመጀመሪያ ደንብ  
የመጀመሪያ ደንብ ቅዱስ

.iii. የመጀመሪያ ደንብ ቅዱስ የመጀመሪያ ደንብ  
የመጀመሪያ ደንብ

1 (3) መሆኑ ስርዓት የመጀመሪያ ደንብ ቅዱስ  
የመጀመሪያ ደንብ ቅዱስ (የመጀመሪያ ደንብ)

1 (4) የመጀመሪያ ደንብ ቅዱስ የመጀመሪያ  
የመጀመሪያ ደንብ ቅዱስ (የመጀመሪያ ደንብ)

1 (5) ማዘጋጀ ስርዓት የመጀመሪያ ደንብ  
የመጀመሪያ ደንብ (የመጀመሪያ ደንብ)

(6) የመጀመሪያ ደንብ ቅዱስ የመጀመሪያ  
የመጀመሪያ ደንብ ቅዱስ



(7)

(٥) حَسَدَ سَرِيرَةَ مُحَمَّدٍ (٤) حَسَدَ سَرِيرَةَ مُحَمَّدٍ (٣) حَسَدَ سَرِيرَةَ مُحَمَّدٍ (٢) حَسَدَ سَرِيرَةَ مُحَمَّدٍ

26. قیمتی از خود را که می‌خواهد بگیرد 59 و سرمه در هر کیلو ۲۰۰ تومان است. این کمتر از قیمتی است که می‌خواهد بگیرد.

(١) حِجَّةُ الْعَدْوَى (٢) حِجَّةُ الْمُهْرَجَةِ وَحِجَّةُ الْمُهْرَجَةِ وَحِجَّةُ الْمُهْرَجَةِ (٣) حِجَّةُ سَرْيَنْدَهْرَى (٤) حِجَّةُ سَرْيَنْدَهْرَى (٥) حِجَّةُ سَرْيَنْدَهْرَى



27. فَتَرَوْ جَرَّهُ ظَبَّابِرَةٍ 61 وَسَرَّ حَمَرَةٍ (۱۶) وَرَهَمَرَهُ ظَبَّابِرَةٍ سَرَّهُ وَنَدَّهُ

.61

(v) حکومت ایجاد نہیں کر سکتی تھی اور جو 5 (پندرہ) اور زیر قانونگای  
حکومت ایجاد نہیں کر سکتی تھی اور جو 2 (دوسرے) حکومت میتوڑیں  
میتوڑیں 5 (پندرہ) اور زیر قانونگای 2 (دوسرے) حکومت میتوڑیں۔

٢٨- مَسْرُورٌ حَرَرَ تِيزِيرِي ٦١ وَسَدَرَ تِيزِيرِي قَرَّصَرَ تِيزِيرِي سَرْجَو تِيزِيرِي كَمْبَرَ تِيزِيرِي.

٦١-١ **مکونہ ایجاد کے لیے** **مکونہ ایجاد کے لیے**  
**مکونہ ایجاد کے لیے** **مکونہ ایجاد کے لیے**

(۱) *اکتوبر ۲۰۰۷ء کی تحریر اور تحریر ۲۰۰۹ء کی تحریر میں سے ایک تحریر*

(سر) خداوندی علی و حبیب مودودی رئیس انجمن علمی اسلام و فقیر مدرس

29. سیزدهمین دورهٔ قوهٔ قدرتی 62 خرداد ۱۳۹۰ در تهران برگزار شد.

٦٢ . مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ حَسَنُ بْنُ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ  
كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا أَنْجَاهُ اللَّهُ عَزَّ ذِيَّلَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ  
أَنْ يَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ مَنْ هُوَ فِي أَعْيُنِهِ  
أَنَّمَا أَنْجَاهُ اللَّهُ عَزَّ ذِيَّلَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ  
أَنْ يَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ مَنْ هُوَ فِي أَعْيُنِهِ



.30. ٦٣ وَسَرَّ دَوْهَرَ تَجَزَّرَ بِرَبِّيَّ

૨૮ સુરો-

۳۷۰ میرزا علی خان از این سرمهای خوب است و بخوبی در این میوه ها می تواند از آن استفاده کرد.

وَقَدْ جَعَلَ لِلْمُجْرِمِينَ  
نَارًا مُّسْكَنًا وَمَوْلَى  
بِرْ قَدْرِ دُرْ كَوْنَى  
كَهْ كَهْ كَهْ كَهْ كَهْ كَهْ

وَقَدْ حَفِظَ أَنْتَ مِنْ كُلِّ  
كُلِّ قَرْآنٍ وَمِنْ كُلِّ  
كُلِّ كِتَابٍ

(١) مَنْ يَرْجُو حَيَاةً فِي الْأَخْرَى فَلْلَهُ الْمَوْلَى لِمَنْ يَرْجُو حَيَاةً فِي الدُّنْيَا فَلَهُ مَوْلَى هُوَ أَفَوَلَّ مَوْلَى

(2) **لِمَدْعُوَاتِ الْمُسْتَهْدِفِينَ** **لِمَدْعُوَاتِ الْمُسْتَهْدِفِينَ**



جَرْجَرَةٌ مُّوَجَّهٌ فِي سَمَاءِ الْأَنْجَارِ (2)

۳) مکانیزم این اتفاق را در اینجا بررسی کنید.

جَرْبَرْسِرْ جَرْبَرْسِرْ جَرْبَرْسِرْ جَرْبَرْسِرْ (4)

۶۶۶ <sup>۰۰۰</sup>  
جیزیرہ سرخ

جَوْفَهُمْ مُكَبِّرٌ لَهُمْ نَارٌ فَمَا هُنَّ بِشَيْءٍ بِلَهٗ  
أَنْ يَرْجِعُوهُمْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَلَا يَشَدِّدُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُرَطَانٌ

22

(۱) **مَدْحُودٌ** نَّاجِيٌّ مُوْسَىٰ سُرْعَوْهُ تَجْرِيٌّ  
مَوْلَانَهُ شَفَاعَتُهُ سُرْعَوْهُ مَوْلَانَهُ  
مَوْلَانَهُ رَجَلَهُ شَفَاعَتُهُ سُرْعَوْهُ حَمَرَانَهُ  
مَوْلَانَهُ حَمَرَانَهُ سُرْعَوْهُ حَمَرَانَهُ

مکالمہ سرگرمی  
مکالمہ سرگرمی

የመጀመሪያ ተጀመሪ እና ስርዓመ መሆኑን የሚከተሉ ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ  
ና ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ የመጀመሪያ ተጀመሪ እና ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ  
ች የመጀመሪያ ተጀመሪ እና ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ ተጀመሪ እና ስርዓመ መሆኑን  
ቅርቡ በመጀመሪያ ተጀመሪያ እና ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ ተጀመሪ እና ስርዓመ መሆኑን

(مر) ታደሰ የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን  
ና ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ ተጀመሪ  
ች የመጀመሪያ ተጀመሪ የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ  
አንድ ሁኔታ መሆኑን የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ  
የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን  
ወጪ የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን  
አንድ ሁኔታ መሆኑን የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ  
መሆኑን የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን  
አንድ ሁኔታ መሆኑን የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ  
አንድ ሁኔታ መሆኑን የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ  
አንድ ሁኔታ መሆኑን የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ

69. (مر) ታደሰ የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን  
የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን  
ና ስርዓመ መሆኑን እና 5 የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ  
የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን

መሆኑን የመጀመሪያ  
ሁኔታ ታደሰ  
የመጀመሪያ  
ሁኔታ  
የመጀመሪያ  
ሁኔታ  
የመጀመሪያ  
ሁኔታ

(مر) ታደሰ (مر) ታደሰ የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ  
ና ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ  
መሆኑን የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ ተጀመሪ  
አንድ ሁኔታ መሆኑን የመጀመሪያ ተጀመሪ ስርዓመ መሆኑን የመጀመሪያ



፲፻፱፭

(مر)

መሆኑን  
የመጀመሪያ  
ሁኔታ

يُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُكَفِّرُونَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ  
 وَمَنْ يُعْمَلْ عَلَيْهِ مِنْ حُكْمٍ فَإِنَّمَا يُعْلَمُ بِهِ الْأَوَّلُونَ  
 وَمَنْ يُغْرِيَهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَلَا يُحِيطُونَ بِمَا يَعْمَلُونَ  
 وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

(ب) دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ (ر) أَمْرِ (ر) دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ (ر) دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ (ر)  
 دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ  
 دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ

32. دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ 69 دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ

### دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ

#### دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ

(ر) دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ  
 دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ  
 دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ  
 دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ

دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ  
 دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ

(1) دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ

(2) دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ

(3) دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ



(ر) دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ 69 دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ  
 دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ  
 دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ دَوْلَةُ الْجَاهْلِيَّةِ

وَجْهَنَّمَ وَسِرْطَانَهُ وَلَدَنَّهُ وَكَوْكَبَهُ وَلَهُ دَرَجَاتٌ كَثِيرَاتٌ  
وَمِنْهُ سَعْيٌ مَّتَّعٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَمِنْهُ مَوْتٌ لِّلْمُنْكَرِ.

(ر) حِجَّةُ الْحَرَمَةِ (ر) كَيْفَ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَرْجُوا  
مَرْجَعَهُ إِلَيْهِ سُرْعَةً مُّسْعَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَسَارِ، مِنْهُ وَسْرٌ  
لَّا يَرْجُو بَرَخَةَ هَذِهِ، وَمِنْهُ سَرَّ وَعْدَهُ تَأْمِنَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ  
لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَسَارِ كَمَا يَرْجُونَ فِي الْمَسَارِ وَمِنْهُ  
أَنَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَسَارِ كَمَا يَرْجُونَ فِي الْمَسَارِ وَمِنْهُ  
أَنَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَسَارِ كَمَا يَرْجُونَ فِي الْمَسَارِ وَمِنْهُ

69-2

مِنْهُ وَسْرٌ وَّمِنْهُ  
لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَسَارِ  
لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَسَارِ

(ر) حِجَّةُ الْحَرَمَةِ (ر) كَيْفَ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ رِجْلَهُمْ  
لَّا يَرْجُونَ سَعْيَهُمْ وَجْهَنَّمَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ حِلْمٌ لَّا يَرْجُونَ  
لَّا يَرْجُونَ سَعْيَهُمْ وَجْهَنَّمَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ حِلْمٌ لَّا يَرْجُونَ

(ر) مِنْهُ وَسْرٌ وَّمِنْهُ حِجَّةُ الْمَسَارِ لِلْمُؤْمِنِينَ  
لِلْمُؤْمِنِينَ وَسَرَّ وَعْدَهُ حِجَّةُ الْمَسَارِ لِلْمُؤْمِنِينَ  
لِلْمُؤْمِنِينَ كَمَا يَرْجُونَ فِي الْمَسَارِ كَمَا يَرْجُونَ فِي الْمَسَارِ  
لِلْمُؤْمِنِينَ كَمَا يَرْجُونَ فِي الْمَسَارِ كَمَا يَرْجُونَ فِي الْمَسَارِ

(ر) حِجَّةُ الْمَسَارِ (ر) كَيْفَ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَجْلَهُمْ  
لَّا يَرْجُونَ سَعْيَهُمْ فِي الْمَسَارِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَجْلَهُمْ 1 (١٦٦)

(ر) حِجَّةُ الْمَسَارِ (ر) كَيْفَ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ سُرْعَةً  
لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَسَارِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَجْلَهُمْ  
لَّا يَرْجُونَ سَعْيَهُمْ فِي الْمَسَارِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَجْلَهُمْ  
لَّا يَرْجُونَ سَعْيَهُمْ فِي الْمَسَارِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَجْلَهُمْ  
لَّا يَرْجُونَ سَعْيَهُمْ فِي الْمَسَارِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَجْلَهُمْ

69-3

مِنْهُ وَسْرٌ وَّمِنْهُ  
لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَسَارِ



(ب) میں تو سارے فوجوں کا لئے جس طریقہ سے بھی تحریر کرو، جس طریقہ سے تحریر کرو، تا اور تحریر کرو تو نہیں  
 تحریر کر دیتے ہیں جو گھنٹے فری (ر) کوئی فوج کو تحریر کر دیتے ہیں اور تحریر کر دیتے ہیں  
 فوج کو تحریر کرو سو وہ رکھ رکھ دیتے ہیں اور میں تحریر کر دیتے ہیں تا اور تحریر کرو تو نہیں  
 پڑتے ہیں جس طریقہ سے بھی تحریر کرو، جس طریقہ سے تحریر کرو، اور میں تحریر کر دیتے ہیں تا اور تحریر کرو

33. تَسْعِيْرُ اَنْجِلِيْزِيْرَى 70 وَسَرَّاً ٢٠١٣مِ اَسْتِرِيْلِيْرَى ٥٧مِرَّى ٦٣٠٢٠١٣مِ اَسْتِرِيْلِيْرَى.

۷۰ (۱) رَدَّتْهُ مُؤْمِنَةً وَجَاهَتْهُ تَحْرِيَّهُ وَلَمْ يَكُنْ  
وَجَاهَهُ تَحْرِيَّهُ فَلَمْ يَرَهُ مُؤْمِنٌ وَلَمْ يَرَهُ  
وَلَمْ يَرَهُ مُؤْمِنٌ وَلَمْ يَرَهُ مُؤْمِنٌ وَلَمْ يَرَهُ

(ر) مُهَاجِرٌ قَدْ سَعَى إِلَيْهِ وَمُهَاجِرٌ قَدْ حَمَلَتْهُ الْجَهَنَّمُ وَمُهَاجِرٌ قَدْ حَمَلَتْهُ الْجَنَّةُ، وَمُهَاجِرٌ

(ر) قَدْ صَدَقَتْهُ الْجَنَّةُ وَمُهَاجِرٌ قَدْ حَمَلَتْهُ الْجَهَنَّمُ وَمُهَاجِرٌ قَدْ حَمَلَتْهُ الْجَنَّةُ، وَمُهَاجِرٌ

وَمُهَاجِرٌ قَدْ حَمَلَتْهُ الْجَهَنَّمُ وَمُهَاجِرٌ قَدْ حَمَلَتْهُ الْجَنَّةُ.



(مر) دیگر جزو (مر) کوچکترین تعداد خود را در مجموعه ای معرفی کنید.

(۸) **خ** **ن** **ا** **خ** **م** **ر** **ج** **ع** **س** **ر** **م** **د** **ن** **س** **ر** **م** **د** **ن** **س** **ر**  
**ب** **د** **ن** **م** **ر** **ج** **ع** **س** **ر** **م** **د** **ن** **س** **ر** **م** **د** **ن** **س** **ر** **م** **د** **ن** **س** **ر**  
**خ** **ن** **م** **ر** **ج** **ع** **س** **ر** **م** **د** **ن** **س** **ر** **م** **د** **ن** **س** **ر** **م** **د** **ن** **س** **ر**

(ع) دیگر دو موردی (۱) که در آن سرمه از عورت است و دیگر دو موردی (۲) که در آن سرمه از مرد است.

۲۰۰

لَا يَأْتِي مُحَمَّدٌ بِنَجْعَلٍ وَلَا يَأْتِي مُحَمَّدٌ بِكَوْنَرٍ

35. تَسْمِيَّةً وَجَاهَةً 75 حَسَنَةً لِلشَّهِيدِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدِيْنَ.



(سر) نے خود میری (سر) کی طرف سفر کر دیا۔

(1) سَمَرْسَرْجُونْ وَ سَمَرْسَرْجُونْ سَمَرْسَرْجُونْ سَمَرْسَرْجُونْ سَمَرْسَرْجُونْ

(2) **غورگری سوچه ترکیبی** سوچه ترکیبی سوچه ترکیبی

(3) **جَوَابُهُمْ يَرْجُونَ مُؤْمِنًا فَلَمْ يَرْجُوا مُؤْمِنًا**  
مَرْجِعُهُمْ يَرْجُونَ رَجُلًا

(4) *لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ مُؤْمِنًا وَمَنْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ*

(5) **مَنْتَهِيَّةُ الْمُجَمَّعِ مُؤَجَّلٌ فَرِيقٌ أَكْبَرُ تَسْرِيْفٍ وَأَكْبَرُ سُقْرُوفٍ**

(6) **مَوْسُوْدَةِ قَرْبَهُ تَعْلِيَهُ عَلَيْهِ سَرْبَهُ**

۹) مَوْلَانَهُمْ مَنْ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَا يَنْهَا  
نَعْصَمُونَ وَلَا يَرْجِعُونَ



(11) **كَمْ يُنْفِدُ الْمُرْسَلُونَ رَبِّيْرَ عَجَّرَ مَوْسِيْرَ مَوْسِيْرَ نَجَّارَ؟**

۱۲) (ج) (م) (ن) (و) (ز) (س) (ر) (ل) (ک) (پ) (ت) (ع) (ف) (ب) (خ) (چ) (ئ) (ئ)

(15)

(16) *وَمَنْ يُعَذِّبُ إِلَّا هُوَ أَكْبَرُ وَمَنْ يُحْمِلُ  
عَذَابَهُ إِلَّا هُوَ أَنْفَقُهُ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِهِ فَلَا  
يُؤْمِنُ بِأَنَّهُ مُحَمَّدٌ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِهِ فَلَا*

(سر) ۹) حَسَنَ سَرْسَرَهُ بَرِّيَّهُ وَجَاهَهُ سَرْسَرَهُ بَرِّيَّهُ وَصَفَرَهُ بَرِّيَّهُ  
مَعْبُرَهُ سَرْسَرَهُ بَرِّيَّهُ تَحْتَهُ سَرْسَرَهُ بَرِّيَّهُ حَرَقَهُ سَرْسَرَهُ بَرِّيَّهُ  
جَاهَهُ سَرْسَرَهُ بَرِّيَّهُ وَصَفَرَهُ بَرِّيَّهُ وَجَاهَهُ سَرْسَرَهُ بَرِّيَّهُ  
صَفَرَهُ بَرِّيَّهُ

36 - مُسْلِمٌ وَرَبَّهُ تَوْجِيْهٌ 79 فَسَرَّهُ حَفْنٌ وَسَرَّهُ سَرَّهُ وَخَاهَهُ دَرْبُهُ وَهُنَّ بَشَّارٌ.

(۱) مَرْسَلٌ تَأْمُلُهُ مُؤْمِنٌ، سَوْجٌ تَأْمُلُهُ مُؤْمِنٌ، وَمَوْلَى تَأْمُلُهُ مُؤْمِنٌ  
 أَيْمَانٌ مُؤْمِنٌ رَسُولُهُ مُؤْمِنٌ، تَأْمُلُهُ مُؤْمِنٌ فَرِيقٌ مُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ مُؤْمِنٌ  
 تَأْمُلُهُ مُؤْمِنٌ كَوْكَبٌ مُؤْمِنٌ قَوْمٌ مُؤْمِنٌ رَسُولُهُ مُؤْمِنٌ حَمَلَهُ مُؤْمِنٌ  
 حَمَلَهُ مُؤْمِنٌ فَرِيقٌ مُؤْمِنٌ قَوْمٌ مُؤْمِنٌ رَسُولُهُ مُؤْمِنٌ فَرِيقٌ مُؤْمِنٌ  
 فَرِيقٌ مُؤْمِنٌ كَوْكَبٌ مُؤْمِنٌ قَوْمٌ مُؤْمِنٌ رَسُولُهُ مُؤْمِنٌ فَرِيقٌ مُؤْمِنٌ  
 فَرِيقٌ مُؤْمِنٌ كَوْكَبٌ مُؤْمِنٌ قَوْمٌ مُؤْمِنٌ رَسُولُهُ مُؤْمِنٌ فَرِيقٌ مُؤْمِنٌ  
 فَرِيقٌ مُؤْمِنٌ كَوْكَبٌ مُؤْمِنٌ قَوْمٌ مُؤْمِنٌ رَسُولُهُ مُؤْمِنٌ فَرِيقٌ مُؤْمِنٌ



- 1 -

የትኩረም፣ ሚኑ ቅጂ የሚመለከት ጥርሃኑ ተስፋዣ ቅጂ አንቀጽ  
ጥርሃኑ እና ስራውን እና ተብሎ ስራውን ቅጂ ተስፋዣ ቅጂ (ጥርሃኑ  
ጥርሃኑ) መተካሪ የሚመለከት ነው

አንቀጽ መመሪያውን የሚመለከት ቅጂ እና ተብሎ ስራውን ቅጂ ተስፋዣ ቅጂ ተስፋዣ  
ቅጂ መመሪያውን የሚመለከት ቅጂ እና ተብሎ ስራውን ቅጂ ተስፋዣ ቅጂ ተስፋዣ ቅጂ ተስፋዣ  
40% መተካሪ የሚመለከት

(၁) የትኩረም የሚመለከት ቅጂ እና ተብሎ ስራውን ቅጂ ተስፋዣ  
ቃጥሮች ተብሎ ስራውን ቅጂ እና ተብሎ ስራውን ቅጂ ተስፋዣ ቅጂ ተስፋዣ  
ጥርሃኑ መመሪያውን የሚመለከት ቅጂ እና ተብሎ ስራውን ቅጂ ተስፋዣ ቅጂ ተስፋዣ  
ቅጂ መመሪያውን የሚመለከት ቅጂ እና ተብሎ ስራውን ቅጂ ተስፋዣ ቅጂ ተስፋዣ  
ቅጂ መመሪያውን የሚመለከት ቅጂ እና ተብሎ ስራውን ቅጂ ተስፋዣ ቅጂ ተስፋዣ

(၂) የትኩረም (၁) የትኩረም የሚመለከት ቅጂ እና ተብሎ ስራውን ቅጂ ተስፋዣ  
ቅጂ መመሪያውን የሚመለከት ቅጂ እና ተብሎ ስራውን ቅጂ ተስፋዣ ቅጂ ተስፋዣ

(၁) ማኅበ ማሻሻል ማዘግበ አንቀጽ መመሪያውን ቅጂ

(၂) ማኅበ ማሻሻል ማዘግበ እና ተብሎ ስራውን ቅጂ መመሪያውን

(၃) የትኩረም የሚመለከት ቅጂ እና ተብሎ ስራውን ቅጂ ተስፋዣ

(၄) አንቀጽ መመሪያውን የሚመለከት ቅጂ እና ተብሎ ስራውን ቅጂ ተስፋዣ  
ቅጂ መመሪያውን የሚመለከት ቅጂ እና ተብሎ ስራውን ቅጂ ተስፋዣ

(၅) የትኩረም የሚመለከት ቅጂ እና ተብሎ ስራውን ቅጂ ተስፋዣ  
ቅጂ መመሪያውን የሚመለከት ቅጂ እና ተብሎ ስራውን ቅጂ ተስፋዣ  
ቅጂ መመሪያውን የሚመለከት ቅጂ እና ተብሎ ስራውን ቅጂ ተስፋዣ



(ج) حِجَّةُ الْعُدُوٌّ (ر) لِلْمُحَاجَّةِ وَسِرْكَيْجَيْرِ بَعْدَ حِجَّةِ الْعُدُوٌّ وَبَعْدَ حِجَّةِ الْعُدُوٌّ

37. حُسْنَةٌ وَرِبَّةٌ فَوْجٌ سَيِّرَةٌ 102 حُسْنَةٌ فَوْجٌ سَيِّرَةٌ حُسْنَةٌ فَوْجٌ سَيِّرَةٌ.



(-) .102

۶۰۰ میلیون دلار را در این سال بود.

(خ) سچ نارسونو خود آندر ترسه ای نشختر، در پل ارگونه دخیل بی مردند  
آرمه رسمه، نامه دخیل دخیل آرمه سرمه و موهودیه ۳ (میرزا)  
درسته و نهاده همکاری، پلخو دوچرخه شیخ امیر علی ابراهیم، نیز  
پسرخود آقازاده، سهیل خانی شاهزاده ای خوش خواسته، سچ  
نارسونو خود عبارت دستور ای خوش خواسته.

(۱) ۱۰۷-۱  
مَنْ يَرْجُو لِحَاظًا مُّوْجَدًا فَلَا يَرْجُو مُوْتَمِرًا حَسْبَهُ مُوْتَمِرٌ مُّوْتَمِرٌ

۰۰۰۰۰



(مر) سرمهد سرمهد سرمهد سرمهد

(س) حِدَّةِ حَرَقَ (س) كَيْرِيَةِ سَرِّيَنَهُ حَذْقَبَهُ قَرَمَهُ بَرَبَّهُ قَرَنَهُ دَرَجَتَهُ،  
حَذْقَبَهُ دَرَجَتَهُ 2 (س) قَرَمَهُ بَرَبَّهُ مَوْسِيَهُ سَرِّيَهُ وَسَرِّيَهُ  
بَرَبَّهُ مَوْسِيَهُ حَذْقَبَهُ سَرِّيَهُ دَرَجَتَهُ دَرَجَتَهُ.

(م) حِدَّةِ حَرَقَ (س) كَيْرِيَةِ سَرِّيَنَهُ قَرَمَهُ سَرِّيَنَهُ دَرَجَتَهُ، مَوْسِيَهُ  
بَرَبَّهُ دَرَجَتَهُ سَرِّيَهُ سَوْقَهُ دَرَجَتَهُ حَذْقَبَهُ مَوْسِيَهُ دَرَجَتَهُ وَسَرِّيَهُ  
بَرَبَّهُ حَذْقَبَهُ بَرَبَّهُ مَوْسِيَهُ دَرَجَتَهُ دَمِيَهُ كَيْرِيَهُ قَرَمَهُ  
رَجَحَجَهُ كَيْرِيَهُ بَرَبَّهُ دَرَجَتَهُ سَرِّيَهُ دَرَجَتَهُ دَرَجَتَهُ، كَيْرِيَهُ قَرَمَهُ حَذْقَبَهُ  
بَرَبَّهُ مَوْسِيَهُ دَرَجَتَهُ، كَيْرِيَهُ سَرِّيَهُ دَرَجَتَهُ رَجَحَجَهُ كَيْرِيَهُ حَذْقَبَهُ.

(ن) حِدَّةِ حَرَقَ (س) كَيْرِيَةِ سَرِّيَنَهُ بَرَبَّهُ مَوْسِيَهُ  
حَذْقَبَهُ دَرَجَتَهُ بَرَبَّهُ مَوْسِيَهُ حَذْقَبَهُ سَرِّيَهُ دَرَجَتَهُ  
سَرِّيَهُ دَرَجَتَهُ بَرَبَّهُ مَوْسِيَهُ بَرَبَّهُ مَوْسِيَهُ، دَرَجَتَهُ سَرِّيَهُ دَرَجَتَهُ  
بَرَبَّهُ حَذْقَبَهُ سَرِّيَهُ.

.39. حُسْنُ حِرَرَ كَيْرِيَهُ 126 حَسَنَ حِدَّةِ حَرَقَ دَرَجَتَهُ سَرِّيَهُ كَيْرِيَهُ دَرَجَتَهُ حَذْقَبَهُ.

126. سَرِّيَهُ دَرَجَتَهُ كَيْرِيَهُ دَرَجَتَهُ حَذْقَبَهُ كَيْرِيَهُ حَذْقَبَهُ سَرِّيَهُ دَرَجَتَهُ  
سَرِّيَهُ دَرَجَتَهُ كَيْرِيَهُ دَرَجَتَهُ حَذْقَبَهُ سَرِّيَهُ دَرَجَتَهُ كَيْرِيَهُ  
بَرَبَّهُ حَذْقَبَهُ سَرِّيَهُ دَرَجَتَهُ كَيْرِيَهُ دَرَجَتَهُ حَذْقَبَهُ سَرِّيَهُ دَرَجَتَهُ  
كَيْرِيَهُ دَرَجَتَهُ حَذْقَبَهُ سَرِّيَهُ.

.40. حُسْنُ حِرَرَ كَيْرِيَهُ 131 حَسَنَ حِدَّةِ حَرَقَ كَيْرِيَهُ سَرِّيَهُ كَيْرِيَهُ دَرَجَتَهُ سَرِّيَهُ

مَوْسِيَهُ سَرِّيَهُ

سَرِّيَهُ دَرَجَتَهُ كَيْرِيَهُ حَذْقَبَهُ سَرِّيَهُ



سَرِّيَهُ دَرَجَتَهُ كَيْرِيَهُ دَرَجَتَهُ كَيْرِيَهُ دَرَجَتَهُ سَرِّيَهُ

131-1

حَسَنَ حِدَّةِ حَرَقَ

۲۰۰۰ میلادی

(۱) مکانیزم انتقال خودکار و مکانیزم انتقال خودکار

(ج) تَدْرِسُونَ مُهَمَّةً رَّيْسُونَ مُهَمَّةً فَرَّجُونَ مُهَمَّةً فَرَّجُونَ مُهَمَّةً

(د) تاں سر سوچوں کے درجے پر جو موہنیوں کے خلاف کام کر رہے تھے اس سر سوچوں کے  
لئے جو بہت سارے مکاریوں کا، اس سر سوچے کے درجے پر جو موہنیوں کے خلاف کام کر رہے تھے  
تھے سوچ کے درجے پر جو موہنیوں کے خلاف کام کر رہے تھے اس سر سوچوں کے

(v) **କୁଣ୍ଡଳାରୀ** ପରେ କୁଣ୍ଡଳାରୀ  
କୁଣ୍ଡଳାରୀ ପରେ କୁଣ୍ଡଳାରୀ.



(١) نَادِيْرُ سُوكُوْدُوْ دِيْنُورِيْ رِسْتِيْرِيْ سُوكُومُ شِفَرِدِيْرِيْ كِلِّيْجُوْرِيْ سُوكُومُ  
كِلِّيْجُوْرِيْ سُوكُومُ كِلِّيْجُوْرِيْرِيْ كِلِّيْجُوْرِيْرِيْ كِلِّيْجُوْرِيْرِيْ كِلِّيْجُوْرِيْرِيْ  
كِلِّيْجُوْرِيْرِيْ سُوكُومُ كِلِّيْجُوْرِيْرِيْرِيْ كِلِّيْجُوْرِيْرِيْرِيْ كِلِّيْجُوْرِيْرِيْرِيْ  
كِلِّيْجُوْرِيْرِيْرِيْ سُوكُومُ كِلِّيْجُوْرِيْرِيْرِيْرِيْ كِلِّيْجُوْرِيْرِيْرِيْرِيْ كِلِّيْجُوْرِيْرِيْرِيْ

(مر) نَادِيُّ الْمُهَاجِرِينَ حَسَنَةٌ مُؤْمِنَةٌ حَسَنَةٌ مُؤْمِنَةٌ حَسَنَةٌ مُؤْمِنَةٌ

(۱۰) عَزِيزٌ فَرَحْمَانٌ مُّهَاجِرٌ فَرَحْمَانٌ مُّهَاجِرٌ فَرَحْمَانٌ مُّهَاجِرٌ

(۸) مَنْ يُؤْمِنْ بِهِ فَلَمْ يَرْأَهُ فَلَئِنْ يَرَهُ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِهِ فَلَمْ يَرْأَهُ فَلَئِنْ يَرَهُ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ

(۱) سَادِرُ شَوَّالٍ حَسَنَهُ مَرْدَنْهُ وَجْهُهُ حَسَنَهُ  
 هَذِهِ بَلْهَارَهُ لَهُمْ بَلْهَارَهُ بَلْهَارَهُ  
 سَادِرُ شَوَّالٍ حَسَنَهُ مَرْدَنْهُ وَجْهُهُ حَسَنَهُ  
 هَذِهِ بَلْهَارَهُ لَهُمْ بَلْهَارَهُ بَلْهَارَهُ

(ر) نظریهٔ مادهٔ خود



(مر) نَدْرَهُ مُوَيْزِرٌ فِي سَرْفَرٍ بَلْجَوْنَادِيرٍ تَرْجُمَهُ أَنْ يَدْعُو  
فِي سَرْفَرٍ مُسْتَرَّهُ بَلْجَوْنَادِيرٍ تَرْجُمَهُ أَنْ يَدْعُو  
بَلْجَوْنَادِيرٍ مُسْتَرَّهُ فِي سَرْفَرٍ بَلْجَوْنَادِيرٍ تَرْجُمَهُ أَنْ يَدْعُو.

(-) 131-4

(ر) ح دیگر سرمه و خرمائی نایاب است و مخصوصاً در تهیه سرمه از خوشبوی خود برخوردار است.

۱۳۱-۵ مکانیزم انتقال سیگنال های خودکار ۲۰۰۰ متری



(ر) حجۃ المبروک (ر) حجۃ المبروک حجۃ المبروک حجۃ المبروک حجۃ المبروک حجۃ المبروک

43- خشکی و خشکی خود را در میان این دو میانگین می بینید. این دو میانگین را می توانید با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید:

44- قوی خود راننده 56-2 و سرمه ای خود راننده (ع) دیر (ز) دیر خود راننده قوی خود راننده، 39 خود راننده (سر) دیر خود راننده قوی خود راننده، دیر خود راننده دیر خود راننده قوی خود راننده قوی خود راننده.

٤٥- ٥٩) قَدْرَتُهُمْ بِالْأَنْوَارِ وَلَا يَرَوْنَهُمْ ۖ وَهُمْ لَا يَرَوْنَهُمْ ۖ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ



جعفر بن مسیح

(፳፻፲፭ ዓ.ም ፪፭ ፯፭ ፮፭)



ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

二

2019		2020		٢٠٢٠
				٢٠٢٠
22,051,412,898	23,516,410,484			٢٠٢٠
(199,253,483)	(162,727,232)			٢٠٢٠
(1,598,357,121)	(1,746,258,234)			٢٠٢٠
(892,710,800)	(979,906,027)			٢٠٢٠
(705,646,321)	(768,352,207)			٢٠٢٠
(1,855,767,641)	(1,911,440,670)			٢٠٢٠
(16,110,941)	(16,089,577)			٢٠٢٠
-	2,523,783,857			٢٠٢٠
18,381,923,712	19,679,894,771			٢٠٢٠
919,096,186	983,994,739			٢٠٢٠
1,855,767,641	1,911,440,670			٢٠٢٠
16,110,941	16,089,577			٢٠٢٠
748,751,433	771,012,099			٢٠٢٠
1,667,847,618	1,755,006,837			٢٠٢٠
(187,920,023)	25,428,389			٢٠٢٠

۱۰۷

سُرَيْفٌ وَبَرَّجَةٌ سَمَّا

14-10-2019 : میرزا


١٤ | ١٠ | ٢٠١٩


००८०




مودودیو، ڈیکھنے کے لئے 10 جولائی 2010ء کو پورا کیا گی۔


#	تامین کنندگان	مکان	تاریخ	ردیف
۱	سازمان امنیت ملی	آزادی	۲۲.۰۹.۱۴	(۱) .۲۲
۲	سازمان امنیت ملی	آزادی	۲۲.۰۹.۱۴	(۲) .۲۲










٧	٠٣٣	(-)	٧









(۱)	کے میں کوئی دوسرے بے پرواہ اور سرسری سر بھروسہ امور نہ کرو کے سے ۵۰٪ تک ۷۰٪ تک	۳.۵
(۲)	کے میں کوئی دوسرے بے پرواہ اور سرسری سر بھروسہ امور نہ کرو کے سے ۵۰٪ تک ۷۰٪ تک	۳.۵
(۳)	کے میں کوئی دوسرے بے پرواہ اور سرسری سر بھروسہ امور نہ کرو کے سے ۵۰٪ تک ۷۰٪ تک	۳.۵
(۴)	کے میں کوئی دوسرے بے پرواہ اور سرسری سر بھروسہ امور نہ کرو کے سے ۵۰٪ تک ۷۰٪ تک	۳.۵
(۵)	کے میں کوئی دوسرے بے پرواہ اور سرسری سر بھروسہ امور نہ کرو کے سے ۵۰٪ تک ۷۰٪ تک	۳.۵







(1)	سُوْجَىٰ كَوْ	مَرْجِعٌ سَعْيٌ بِنَمْوَنَةِ كَوْ	جَهَنَّمَ كَوْ	جَهَنَّمَ كَوْ
(2)	سُوْجَىٰ كَوْ	مَرْجِعٌ سَعْيٌ بِنَمْوَنَةِ كَوْ	جَهَنَّمَ كَوْ	جَهَنَّمَ كَوْ
(3)	سُوْجَىٰ كَوْ	مَرْجِعٌ سَعْيٌ بِنَمْوَنَةِ كَوْ	جَهَنَّمَ كَوْ	جَهَنَّمَ كَوْ
41	سُوْجَىٰ كَوْ	مَرْجِعٌ سَعْيٌ بِنَمْوَنَةِ كَوْ	جَهَنَّمَ كَوْ	جَهَنَّمَ كَوْ
-41	سُوْجَىٰ كَوْ	مَرْجِعٌ سَعْيٌ بِنَمْوَنَةِ كَوْ	جَهَنَّمَ كَوْ	جَهَنَّمَ كَوْ





١٠,٠٠٠	دَرْسَنَةٌ ٢ (قُوَّةٌ) دَرْسَنَةٌ ٥
٣٠,٠٠٠	(دَرْسَنَةٌ ٧) دَرْسَنَةٌ ٧ (دَرْسَنَةٌ)


(م) تقرير مراجعة حسابات ٢٠١٠ ميلادي، لشهر سبتمبر من العام المالي ٢٠١٠/٧/٢٠١٠ إلى ٢٠١٠/٩/٢٠١٠، صادر عن المحاسبة العامة، وذلك في ٢٠١٠/٩/٢٠١٠.





١٠	٥٣	٥٣
٥٤	٥٤	٥٤
















<p>(١) سَمِعْتُ كَيْ مَهْبَهْ تَنْيَى لَمَسْرَهْ دَرْدَهْ دَرْهَه لَمَسْرَهْ دَرْدَهْ دَرْهَه لَمَسْرَهْ دَرْدَهْ دَرْهَه</p>
<p>(٢) تَدْرِجْتُ كَيْ مَهْبَهْ دَرْهَه دَرْهَه دَرْهَه لَمَسْرَهْ دَرْدَهْ دَرْهَه دَرْهَه لَمَسْرَهْ دَرْدَهْ دَرْهَه دَرْهَه لَمَسْرَهْ دَرْدَهْ دَرْهَه دَرْهَه</p>
<p>(٣) تَدْرِجْتُ كَيْ مَهْبَهْ دَرْهَه دَرْهَه دَرْهَه لَمَسْرَهْ دَرْدَهْ دَرْهَه دَرْهَه لَمَسْرَهْ دَرْدَهْ دَرْهَه دَرْهَه لَمَسْرَهْ دَرْدَهْ دَرْهَه دَرْهَه</p>
<p>(٤) تَدْرِجْتُ كَيْ مَهْبَهْ دَرْهَه دَرْهَه دَرْهَه لَمَسْرَهْ دَرْدَهْ دَرْهَه دَرْهَه لَمَسْرَهْ دَرْدَهْ دَرْهَه دَرْهَه لَمَسْرَهْ دَرْدَهْ دَرْهَه دَرْهَه</p>
<p>(٥) تَدْرِجْتُ كَيْ مَهْبَهْ دَرْهَه دَرْهَه دَرْهَه لَمَسْرَهْ دَرْدَهْ دَرْهَه دَرْهَه لَمَسْرَهْ دَرْدَهْ دَرْهَه دَرْهَه لَمَسْرَهْ دَرْدَهْ دَرْهَه دَرْهَه</p>







١٣	٥٨	٥٨	٥٨
٢٢	٥٨	٥٨	٥٨
٥٨	٥٨	٥٨	٥٨
































$c_1 c_2 c_3 = 0$  و  
که  $c_1, c_2, c_3 \neq 0$ .





۱	۲	۳	۴	۵
۱	۲	۳	۴	۵
۶	۷	۸	۹	۱۰
۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵
۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰




<p>لے کر میں، مہر، پاکستانی حکومت کے لئے اپنے دشمنوں کی خدمت کرنے والے کو خوبی کی خدمت کرنے والے لئے کردار، ملکیتی سوسائٹی پر خود دعویٰ کر دے گے۔</p>	<p>(س)</p> <p>لے کر میں، مہر، پاکستانی حکومت کے لئے اپنے دشمنوں کی خدمت کرنے والے کو خوبی کی خدمت کرنے والے لئے کردار، ملکیتی سوسائٹی پر خود دعویٰ کر دے گے۔</p>	<p>(م)</p> <p>لے کر میں، مہر، پاکستانی حکومت کے لئے اپنے دشمنوں کی خدمت کرنے والے کو خوبی کی خدمت کرنے والے لئے کردار، ملکیتی سوسائٹی پر خود دعویٰ کر دے گے۔</p>
---	--	--








(1)	مَوْلَانَةِ سُلَيْمَانِ	سَعْيَهُ لِلرَّحْمَةِ	لِلرَّحْمَةِ	لِلرَّحْمَةِ
(2)	مَوْلَانَةِ سُلَيْمَانِ	سَعْيَهُ لِلرَّحْمَةِ	لِلرَّحْمَةِ	لِلرَّحْمَةِ
(3)	مَوْلَانَةِ سُلَيْمَانِ	سَعْيَهُ لِلرَّحْمَةِ	لِلرَّحْمَةِ	لِلرَّحْمَةِ
(4)	مَوْلَانَةِ سُلَيْمَانِ	سَعْيَهُ لِلرَّحْمَةِ	لِلرَّحْمَةِ	لِلرَّحْمَةِ
(5)	مَوْلَانَةِ سُلَيْمَانِ	سَعْيَهُ لِلرَّحْمَةِ	لِلرَّحْمَةِ	لِلرَّحْمَةِ



<p>٦٥</p> <p>تَسْبِيحُهُ وَمُنْدَثِرُهُ</p> <p>تَسْبِيحُهُ وَمُنْدَثِرُهُ</p>	<p>(٥)</p> <p>تَسْبِيحُهُ تَعْلِيَةً حَمْدَةً فَرَحْمَةً مَسْكُونَةً مَدْرَجَةً بَوْحَنَةً فَرَحْمَةً سَمَكَةً وَفَرَحْمَةً سَمَكَةً دَرَجَةً</p> <p>تَسْبِيحُهُ تَعْلِيَةً حَمْدَةً فَرَحْمَةً سَمَكَةً دَرَجَةً</p>
<p>٦٦</p> <p>تَسْبِيحُهُ وَمُنْدَثِرُهُ</p> <p>تَسْبِيحُهُ وَمُنْدَثِرُهُ</p>	<p>(٦)</p> <p>تَسْبِيحُهُ تَعْلِيَةً حَمْدَةً فَرَحْمَةً سَمَكَةً دَرَجَةً بَوْحَنَةً فَرَحْمَةً سَمَكَةً دَرَجَةً</p> <p>تَسْبِيحُهُ تَعْلِيَةً حَمْدَةً فَرَحْمَةً سَمَكَةً دَرَجَةً</p>
<p>٦٧</p> <p>تَسْبِيحُهُ وَمُنْدَثِرُهُ</p> <p>تَسْبِيحُهُ وَمُنْدَثِرُهُ</p>	<p>(٧)</p> <p>تَسْبِيحُهُ سَمَكَةً دَرَجَةً بَوْحَنَةً فَرَحْمَةً سَمَكَةً دَرَجَةً</p> <p>تَسْبِيحُهُ سَمَكَةً دَرَجَةً بَوْحَنَةً فَرَحْمَةً سَمَكَةً دَرَجَةً</p>
<p>٦٨</p> <p>تَسْبِيحُهُ وَمُنْدَثِرُهُ</p> <p>تَسْبِيحُهُ وَمُنْدَثِرُهُ</p>	<p>(٨)</p> <p>تَسْبِيحُهُ سَمَكَةً دَرَجَةً بَوْحَنَةً فَرَحْمَةً سَمَكَةً دَرَجَةً</p> <p>تَسْبِيحُهُ سَمَكَةً دَرَجَةً بَوْحَنَةً فَرَحْمَةً سَمَكَةً دَرَجَةً</p>
<p>٦٩</p> <p>تَسْبِيحُهُ وَمُنْدَثِرُهُ</p> <p>تَسْبِيحُهُ وَمُنْدَثِرُهُ</p>	<p>(٩)</p> <p>تَسْبِيحُهُ سَمَكَةً دَرَجَةً بَوْحَنَةً فَرَحْمَةً سَمَكَةً دَرَجَةً</p> <p>تَسْبِيحُهُ سَمَكَةً دَرَجَةً بَوْحَنَةً فَرَحْمَةً سَمَكَةً دَرَجَةً</p>




(10) نادی سرمه و خود  
خودی  
خودی سرمه و خود  
خودی سرمه و خود

(11) خودی سرمه و خود  
خودی سرمه و خود  
خودی سرمه و خود  
خودی سرمه و خود

(12) نادی سرمه و خود  
خودی سرمه و خود  
خودی سرمه و خود  
خودی سرمه و خود

(13) نادی سرمه و خود  
خودی سرمه و خود  
خودی سرمه و خود  
خودی سرمه و خود

(14) نادی سرمه و خود  
خودی سرمه و خود  
خودی سرمه و خود  
خودی سرمه و خود





(15)


三

(16) *لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ مُؤْمِنًا*

3








(١) مَوْلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْمُهَاجِرَاتِ  
أَخْرَجَهُمْ مِّنْ أَبْرَارِ أَهْلِهِمْ  
لِئَلَّا يَعْلَمُونَ  
فَإِذَا هُمْ يَرَوْنَهُمْ  
يُقْسِمُونَ

(٢) إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْمُحَاجِرَاتِ  
أَنَّهُنَّ مُؤْمِنُونَ  
فَمَا يَرَوْنَ  
لَا يُؤْثِرُونَ

(٣) إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْمُحَاجِرَاتِ  
أَنَّهُنَّ مُؤْمِنُونَ  
فَمَا يَرَوْنَ  
لَا يُؤْثِرُونَ


(٤) إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْمُحَاجِرَاتِ  
أَنَّهُنَّ مُؤْمِنُونَ  
فَمَا يَرَوْنَ  
لَا يُؤْثِرُونَ



۱	تیراندازی	تیراندازی	تیراندازی	تیراندازی
۲	تیراندازی	تیراندازی	تیراندازی	تیراندازی
۳	تیراندازی	تیراندازی	تیراندازی	تیراندازی
۴	تیراندازی	تیراندازی	تیراندازی	تیراندازی
۵	تیراندازی	تیراندازی	تیراندازی	تیراندازی

مَذْكُورٌ فِي الْأَعْدَادِ (6)

وی سرمه نموده و میخ را  
که در آن قرار داشت  
از پایین بگیرید و میخ  
را با خود بگیرید





مُحَمَّدٌ تَعْلَمَ مِنْهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْلَمُ بِكُلِّ أَنْشَاءٍ  
مُحَمَّدٌ تَعْلَمَ مِنْهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْلَمُ بِكُلِّ أَنْشَاءٍ


(x)  $\frac{d}{dx} \ln(x^2 - 1) = \frac{1}{x^2 - 1} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 - 1}$

(۸)  $\frac{d}{dx} \ln f(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$

(٤)  $\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$  (٥)  $\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$





٢٢	<p>١٢٦ مَدِينَةُ سُوْدَانُ، وَشَارِعُ الْمَهْدِيِّ، بَلْدَةُ الْمَهْدِيِّ، سُوْدَانُ، سُوْدَانُ.</p> <p>٣٩ شَارِعُ الْمَهْدِيِّ، بَلْدَةُ الْمَهْدِيِّ، سُوْدَانُ، سُوْدَانُ.</p> <p>٥٠٣ شَارِعُ الْمَهْدِيِّ، بَلْدَةُ الْمَهْدِيِّ، سُوْدَانُ، سُوْدَانُ.</p>	<p>١٢٦ مَدِينَةُ سُوْدَانُ، وَشَارِعُ الْمَهْدِيِّ، بَلْدَةُ الْمَهْدِيِّ، سُوْدَانُ، سُوْدَانُ.</p> <p>١٢٦ مَدِينَةُ سُوْدَانُ، وَشَارِعُ الْمَهْدِيِّ، بَلْدَةُ الْمَهْدِيِّ، سُوْدَانُ، سُوْدَانُ.</p> <p>١٢٦ مَدِينَةُ سُوْدَانُ، وَشَارِعُ الْمَهْدِيِّ، بَلْدَةُ الْمَهْدِيِّ، سُوْدَانُ، سُوْدَانُ.</p>

